

ترجمہ دعائے یا علی یا عظیم

مولانا علی مہدی

اے علی اے عظیم اور غفور
ہے بڑا مہرباں تو رب عظیم
وہ خدا جو کہ ہے سمیع و بصیر
تو نے اس ماہ کو ہے دی عظمت
یہ مہینہ کریم اور شریف
تو نے واجب کئے ہیں مجھ پہ صیام
نام خود تو نے رکھ دیا رمضان
واسطے سب کے جو ہدایت ہے
ہیں ہدایت کے جس میں کتنے نشان
برکتیں رکھ دیں جس کے سینے میں
منزلت جس کی ہے گراں اے خدا
تیرے احسان سے ہے سب کا بھرم
تیرے غفراں کا ہے کتنا دفور
تو ہی بے مثل ہے کہ تو ہے قدیم
جس نے اس ماہ کو ہے دی توقیر
سب مہینوں سے ہے سوا برکت
فضل سے تیرے کس قدر ہے لطیف
اس مہینے کا فرض ہے اکرام
جس میں نازل ہوا ترا قرآن
ہر ہدایت کی جو علامت ہے
حق و باطل کے در میان فرقان
ہے شب قدر اس مہینے میں
ہوں مہینے ہزار جس پہ فدا
اور تجھ پر نہیں کسی کا کرم

مجھ پہ احسان کر دے بار خدا
 ساتھ میں سب کے میری بخشش ہو
 اپنی رحمت سے کر عطا جنت
 ارحم الراحمین تیری ذات
 کیا عالم نے ترجمہ اس کا

نار دوزخ سے ہو گلو یہ رہا
 یعنی مقبول یہ نیایش ہو
 رحم ہے خو کرم تری خصلت
 تیری خدمت میں پیش ہے سوغات
 دور کر سب سے درد و رنج و بلا